



ایشیاء کپ کے لیے 15 رکنی قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا اعلان

- روحیل نذیر کپتان برقرار ، حیدر علی کو نائب کپتان مقرر کر دیا گیا
- سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے خلاف فتوحات سے ٹیم کا مورال بلند ہوا، امید ہے ٹیم ایونٹ میں کامیابی حاصل کرے گی، سلیم جعفر

لاہور، 7 اگست 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے اے سی سی انڈر 19 ایشیاء کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایونٹ 5 سے 14 ستمبر تک سری لنکا میں جاری رہے گا۔

ایونٹ میں شریک قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے اپنے آخری 12 میں سے 10 میچوں میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے۔ جس میں سری لنکا کے خلاف 2-3 اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں 0-7 سے کامیابی شامل ہے۔

روحیل نذیر کو قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا کپتان برقرار جبکہ حیدر علی کو نائب کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔

سری لنکا کی کنڈیشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے سلیم جعفر کی سربراہی میں قائم کردہ جونیئر سلیکشن کمیٹی نے جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔

فاسٹ بولر شیراز خان اور بیٹسمین صائم ایوب کی جگہ ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق رکھنے والے اسپنر ابو ہریرہ اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے بیٹسمین عبدالواحد کو شامل کیا گیا ہے۔

سلیم جعفر، چیئرمین جونیئر سلیکشن کمیٹی:

اس موقع پر قومی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے سربراہ سلیم جعفر کا کہنا ہے کہ سری لنکا کی کنڈیشنز کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے ٹیم میں مزید ایک اسپنر کو شامل کیا ہے۔

سلیم جعفر نے کہا کہ اے سی سی انڈر 19 ایشیاء کپ کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی تیاری آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔

چیئرمین جونیئر سلیکشن کمیٹی سلیم جعفر کا کہنا ہے کہ سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں فتوحات سے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کھلاڑیوں کے فٹنس لیول اور مورال میں بہتری کے باعث ہمیں ایونٹ میں کامیابی کی امید ہے۔

ایونٹ میں شریک دیگر 7 ممالک میں بھارت، کویت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، متحدہ عرب امارات اور نیپال کی ٹیمیں شامل ہیں۔

15 رکنی قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں روحیل نذیر (اسلام آباد) (کپتان اور وکٹ کیپر)، حیدر علی (راولپنڈی) (نائب کپتان)، عامر علی (لاڑکانہ)، ابو ہریرہ (ڈیرہ مراد جمالی)، عبدالواحد (کوئٹہ)، اختر شاہ (کوئٹہ)، فہد منیر (لاہور) شامل ہیں جبکہ محمد عامر (پشاور)، محمد عباس آفریدی (فاٹا)، محمد باسط علی (ملتان)، محمد حارث (پشاور)، محمد عرفان خان (فیصل آباد)، محمد وسیم جونیئر (فاٹا)، نسیم شاہ (لاہور) اور قاسم اکرم (لاہور) بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔

جہانزیب سلطان، سید رضا الحسن، صائم ایوب، شیراز خان اور زمان خان ریزرو کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●

@therealpcb ●

@PakistanCricketBoard ●

@PakistanCricketOfficial ●

@therealpcb ●

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4